

قصہ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کے پیٹ کا

سلسلہ وار موضوعاتی تراجم کی قسط نمبر 12

آئیے عقلی اور علمی تراجم کے سلسلے کی اس قسط میں اب قرآن عظیم میں بیان کیے گئے حضرت یونس کے احوال کو اس کی حقیقی روشنی میں دریافت اور بیان کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اس ضمن میں ذہنوں پر زمانہ قدیم سے چھائے ہوئے وہ طلسماتی تراجم باطل قرار دیے جاسکیں جو اولین عہد میں سازشہ کو ششوں پر مبنی تھے، اور بعد ازاں اندھی تقلید اور پیروی اسلاف کے طرز عمل پر کار بند رہنے کی بنا پر ہماری موجودہ نسل تک متواتر طور پر پہنچے۔

اس کاوش میں بھی قرآن حکیم کا علمی و ادبی اسلوب عالی بعینہی اردو زبان میں منتقل کرنے کی کڑی اور غیر متزلزل جدوجہد کی گئی ہے، تاکہ اس الہامی و شیعے سے وفاداری کا حق ادا کیا جاسکے۔ نیز ترجمہ اس جہت سے کیا گیا ہے کہ سیاق و سباق ہی کی پیروی ہو، تسلسل قائم رہے، الفاظ کے بنیادی [Root] معانی برقرار رہیں، اور ان سب سے بڑھ کر قرآن کے تعمیر کردار کے حقیقی ڈسپلن کی روح قائم و دائم رہے۔ نیز قصص الانبیاء اور تورات سے لیے گئے ماوراء العقول افسانوں کا عقلیت پسندی کی بنیاد پر کامیاب سدباب کر دیا جائے۔

ہمیشہ کی مانند یہ ترجمہ بھی ایک عاجزانہ کوشش ہی ہے۔ اس ضمن میں اختلافی آراء کو خوش آمدید کہا جائیگا بشرطیکہ وہ سند کے ساتھ شعوری بنیاد پر پیش کی جائیں اور مقصد ایک اجتماعی اور متفقہ لائحہ عمل کو ترقی دینا ہو۔

پہلے متعلقہ آیات مبارکہ پیش کر دی جاتی ہیں، پھر ان کا مرحلہ وار جدید عقلی ترجمہ پیش خدمت کرنے کے ساتھ آخر میں سند کے طور پر تمام اہم الفاظ و اصطلاحات کے وہ معانی دیے جائیں گے جو لگ بھگ چودہ مستند اور مشہور عالم عربی لغات کی تحقیق کے بعد اخذ کیے گئے ہیں۔

یہ امر یہاں بیان کرنا از حد ضروری ہے کہ اس جدید ترجمے کی کوشش کا محرک اور باعث فیض محترم پروفیسر عبدالرزاق [مرحوم] کا منفرد عقلیت پر مبنی ترجمہ ہے۔ مرحوم زندگی کے آخری دور میں [یا شاید زمانہ ماقبل میں بھی] ادارہ بلاغ القرآن سے وابستہ رہے اور اپنے علم و فضل، روشن خیالی اور عقلیت پرستی کے لیے خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور بلند ترین درجات عطا فرمائے۔

تو آئیے اللہ کے پاک نام سے اس پر خلوص کاوش کا آغاز کرتے ہیں۔

آیت: ۶/۸۶

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (۸۶)

اور اسماعیل اور یوشع اور یونس اور لوط، ان سب حضرات کو ہم نے ہم عصر انسانوں پر، شعوری ارتقاء کے ضمن میں، افضلیت کا درجہ عطا کیا۔

آیت: ۲۱/۸۷-۸۸

وَدَا النُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (۸۷)

اور یاد کرو [الہامی دانش کے مالک] یونس کو جب وہ مایوسی کے غلبے کی بنا پر برابر فروختگی کے عالم میں [مُغَاضِبًا] اپنے لوگوں سے رشتہ منقطع کر کے ہجرت کر گئے اور کچھ ایسا قیاس کرنے لگے کہ گویا ہم ان کی قدر و قیمت یا بلند مقام کا خیال نہیں رکھیں گے [لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ]، تو پھر اسی عالم میں مایوسی کے اندھیروں میں [فی الظلمات] انہوں نے پکارا کہ میرے رب تیرے سوا کوئی اختیار کا مالک نہیں۔ تُوذَاتٍ مطلق و کامل اور پاک و بلند مرتبہ ہے [سُبْحَانَكَ]۔ بیشک میری حالت اندھیروں میں بھٹکنے والے کی سی ہو گئی ہے۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ (۸۸)

تب ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا اور انہیں غم و اندوہ کی حالت سے نجات عطا کر دی۔ ہم اسی کے مانند اہل امن و ایمان کو کامیاب کرتے ہیں۔

آیت: ۳۷/۱۳۹-۱۴۰

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (۱۳۹)

اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت یونس پیغمبروں میں سے تھے۔

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (۱۴۰)

جب انہیں ہجرت کر کے ایک بلندی پر واقع کھلے قطع زمین [الْفُلْكِ] کی طرف جانا پڑا [أَبَقَ] جو آبادی سے بھر پڑا تھا [الْمَشْحُونِ]۔

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (۱۴۱)

انہوں نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سخت جدوجہد کی تھی [فَسَاهَمَ] لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا [الْمُدْحَضِينَ]۔

فَالنَّعْمَةُ الْحُوتِ وَهُوَ مُلِيمٌ (۱۴۲)

پھر بھی ان کے مشن پر ان کے گہرے ارتکاز [الْحُوتِ] نے انہیں پوری گرفت میں [فَالْتَقَمَهُ] لے رکھا تھا اور وہ خود کو ملامت کرنے پر مائل تھے [ملیم]۔

قَالُوا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (۱۴۳) لَلْبَثِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (۱۴۴)

پس اگر وہ اپنے مشن کے معاملے میں پورے وسائل کے ساتھ جدوجہد کر نیوالے [الْمُسَبِّحِينَ] نہ ہوتے تو وہ ان کے حیات نو پانے کے وقت تک [إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ] ان ہی کے درمیان [فِي بَطْنِهِ] پڑے رہتے [لَلْبَثِ]۔

فَدَبَدَنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (۱۴۵)

اسی حقیقت کے پیش نظر ہم نے انہیں ان کے لوگوں سے منقطع کر کے [فَدَبَدَنَاهُ] ایک فراخ سر زمین پر [بِالْعَرَاءِ] پہنچا دیا جب کہ وہ ناخوش و بیزار تھے [سَقِيمٌ]۔

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقُطِينٍ (۱۴۶)

اور پھر ہم نے ان کے لیے ثمرات سے بھر پور پودے پیدا کر دیے۔

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (۱۴۷)

یعنی انہیں لاکھ سے بھی زائد لوگوں پر رسول بنا دیا۔

فَأَمَّنُوا فَمَرَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (۱۴۸)

پھر وہ سب ایمان بھی لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک مدت تک کے لیے اسباب زندگی سے مالا مال کر دیا۔

آیت: ۵۰-۶۸/۴۸

فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ (۴۸)

پس تم بھی، اے رسول، اللہ کے حکم پر استقامت کے ساتھ جبر رہو، اور صاحب الحوت، یعنی یونس علیہ السلام کی مانند مایوس مت ہو جیسا کہ جب انہوں نے ہمیں پکارا تو وہ سخت دباؤ کی [مَكْظُومٌ] حالت میں تھے۔

لَوْ أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِّدَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (۴۹)

پھر اگر ان کے پروردگار کی جانب سے ان پر عنایت نہ ہو جاتی تو وہ وسیع میدان میں پڑے رہ جاتے اور احساسِ مذمت کا شکار رہتے [مذموم]۔

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (۵۰)

مگر ان کے پروردگار نے ان کی طرف توجہ کی اور انہیں ایک عظیم مصلح کا درجہ عطا کیا۔

آیت: ۱۰/۹۸

قُلُوبًا كَانَتْ قَرِيَّةً آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُؤْسَسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (۹۸)

تو پھر یونس کی قوم کے علاوہ بھی کوئی اور بستی ایسی کیوں نہ ہوتی کہ ایمان لے آتے اور ان کا ایمان انہیں منفتح عطا کر دیتا، کیونکہ جب یونس کی قوم ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہوئی تو ہم نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کو دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں اسبابِ زندگی سے مالا مال رکھا۔

اور اب رواں ترجمہ:

اور اسماعیل اور یوشع اور یونس اور لوط، ان سب حضرات کو ہم نے ہم عصر انسانوں پر، شعوری ارتقاء کے ضمن میں، افضلیت کا درجہ عطا کیا۔

اور یاد کرو [الہامی دانش کے مالک] یونس کو جب وہ مایوسی کے غلبے کی بنا پر براہِ فرہنگی کے عالم میں اپنے لوگوں سے رشتہ منقطع کر کے ہجرت کر گئے اور کچھ ایسا قیاس کرنے لگے کہ گویا ہم ان کی قدر و قیمت یا بلند مقام کا خیال نہیں رکھیں گے۔ تو پھر اسی عالم میں مایوسی کے اندھیروں میں انہوں نے پکارا کہ میرے رب تیرے سوا کوئی اختیار کا مالک نہیں۔ تو ذاتِ مطلق و کامل اور پاک و بلند مرتبہ ہے۔ بیشک میری حالت اندھیروں میں بھٹکنے والے کی سی ہو گئی ہے۔ تب ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا اور انہیں غم و اندوہ کی حالت سے نجات عطا کر دی۔ ہم اسی کے مانند اہل امن و ایمان کو کامیاب کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت یونس پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہیں ہجرت کر کے ایک بلندی پر واقع کھلے قطع زمین کی طرف جانا پڑا جو آبادی سے بھرا پڑا تھا۔ انہوں نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سخت جدوجہد کی تھی لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

پھر بھی ان کے مشن پر ان کے گہرے ارکان نے انہیں پوری گرفت میں لے رکھا تھا اور وہ خود کو ملامت کرنے پر مائل تھے۔

پس اگر وہ اپنے مشن کے معاملے میں پورے وسائل کے ساتھ جدوجہد کر نیوالے نہ ہوتے تو وہ ان کے حیاتِ نو پانے کے وقت تک ان ہی کے درمیان پڑے رہتے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر ہم نے انہیں ان کے لوگوں سے منقطع کر کے ایک فراخ سر زمین پر پہنچا دیا جب کہ وہ ناخوش و بیزار تھے۔

اور پھر ہم نے ان کے لیے ثمرات سے بھرے پودے پیدا کر دیے۔ یعنی انہیں لاکھ سے بھی زائد لوگوں پر رسول بنا دیا۔ پھر وہ سب ایمان بھی لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک مدت تک کے لیے اسبابِ زندگی سے مالا مال کر دیا۔

پس تم بھی، اے رسول، اللہ کے حکم پر استقامت کے ساتھ جھے رہو، اور صاحبِ الحوت، یعنی یونس علیہ السلام کی مانند مایوس مت ہو جیسا کہ جب انہوں نے ہمیں پکارا تو وہ سخت دباؤ کی حالت میں تھے۔ پھر اگر ان کے پروردگار کی جانب سے ان پر عنایت نہ ہو جاتی تو وہ وسیع میدان میں پڑے رہ جاتے اور احساسِ مذمت کا شکار رہتے۔ مگر ان کے پروردگار نے ان کی طرف توجہ کی اور انہیں ایک عظیم مصلح کا درجہ عطا کیا۔

تو پھر یونس کی قوم کے علاوہ بھی کوئی اور بستی ایسی کیوں نہ ہوتی کہ ایمان لے آتے اور ان کا ایمان انہیں منفتح عطا کر دیتا، کیونکہ جب یونس کی قوم ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہوئی تو ہم نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کو دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں اسبابِ زندگی سے مالا مال رکھا۔

بریکٹ میں دیے گئے اہم الفاظ کے مستند معانی:

[مُعَاظِبًا]: غصہ میں ہونا، wrath, rage, indignation, angry, irritated, furious

[لَنْ نُقَدِّرَ عَنَّا]: ہم اس کی صحیح قدر و اہمیت نہیں کرتے یا جانتے۔

[فِي الظُّلُمَاتِ]: تاریکی میں، اندھیروں میں، مایوسی اور ظلم کا اندھیرا۔

[سُبْحَانَكَ]: نُذَاتِ مطلق و کامل ہے؛ تمام کمیوں اور نقائص سے پاک اور بلند ہے۔

[الْقَلْبِ]: زمین کا وسیع قطعہ یا میدان، زمین کے قطعے جو دائرے میں ہوں اور بلند سطح کے حامل ہوں؛ کشتی، جہاز۔

[أَبْرَأَ]: بچ کر نکل جانا؛ بھاگ جانا؛ run away, to escape

[الْمَشْهُونَ]: لوڈ کیا ہوا، چارج کیا ہوا، بھرا ہوا۔ ایک بھری ہوئی آبادی یا شہر، بھرا ہوا جہاز یا گھر، یا کمرہ، وغیرہ۔

[فَسَاهَمَ]: سہم؛ کسی کام کے لیے سخت کوشش کرنا، سنجیدہ کوشش کرنا؛ تیر چلانا، مقابلہ کرنا۔

[الْمُدْحَضِينَ]: شکست خوردہ؛ ہارا ہوا، loser, suffered defeat

[الْحُوْثُ]: کسی مرکز کے گرد مرکز ہونا؛ دائروں میں گھومنا، تعلیمات یا مقاصد پر توجہ مرکوز کرنا؛ مچھلی؛ مچھلی کا گول گول گھومنا۔

[فَالْتَقَمَهُ]: لقمہ؛ لقمہ بھر کر منہ میں ڈال لینا؛ جڑوں کی پکڑ میں یا گرفت میں لے لینا۔ مضبوطی سے چاروں طرف سے جکڑ لینا۔

[مَلِيْمٌ]: ملامت زدہ ہونا۔ ذلت محسوس کرنا۔

[الْمُسْتَجِيْبِيْنَ]: وہ جو کسی مقصد کے لیے پوری طاقت سے؛ پورے وسائل بروئے کار لاتے ہوئے کوشش کریں۔ جیسے تیراک کرتا ہے۔ سچ: وہ تیرا، اس نے پوری جدوجہد کی، کاوش اور کوشش کی۔

[إِلَىٰ يَوْمٍ مَّيْخُوْنٍ]: بعث: از سر نو کھڑے ہو جانا؛ حیاتِ نوبل جانا؛ آخرت کی زندگی؛ مبعوث ہونا۔

[فِي بَطْنِهِ]: اس کے درمیان میں؛ اس کے پیٹ میں؛

[بَلَيْتٌ]: رہنا، زندگی گزارنا،

[فَقَبْذَنَاهُ]: نیند؛ لوگوں سے منقطع ہو کر ایک طرف چلے جانا؛ گوشہ نشین ہونا۔ چیز کو درخور اعتناء نہ سمجھ کر پھینک دینا؛ throw

away, discard, reject, resign, surrender

[بِالْعَرَاءِ]: فراخ میدان میں؛ چٹیل میدان میں۔

[سَقِيْمٌ]: سقم: مرض، کمی، کمزوری، ناخوش اور بیمار؛

diseased/disordered/distempered/sick/poor/faulty, etc.

[مُكْطُوْمٌ]: سخت دباؤ کی حالت میں؛ دکھ، مایوسی، خاموشی، غم سے گھٹا ہوا آدمی۔

[مُذْمُوْمٌ]: مذمت؛ قابلِ مذمت؛ ذمہ داری پوری نہ کرنا؛ discredited, blamed, reviled, reproved, forsaken